



سوال

(277) احرام کی نیت کیے بغیر جدہ آنا

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

اگر کوئی شخص کسی ملک سے حج کی نیت سے آ رہا ہو اور احرام کی نیت کئے بغیر جدہ اتر پورٹ پر اتر جائے اور پھر جدہ سے احرام باندھے تو ایسے آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ایسا آدمی اگر شام یا مصر سے آ رہا ہو تو اسے رابع جا کر احرام باندھ کر آنا چاہیے جدہ سے احرام باندھنا صحیح نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی نجد سے آ رہا ہو تو اسے وادی قرن (سیل) سے احرام باندھ کر آنا چاہیے اگر جدہ سے احرام باندھ لے تو اسے مکہ مکرمہ میں ایک بکری ذبح کر کے یا گائے یا اونٹ کا ساتواں حصہ فقیروں میں تقسیم کر دینا چاہیے تاکہ حج و عمرہ میں جو نقص واقع ہوا ہے وہ پورا ہو جائے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ البانیہ

حج بیت اللہ اور عمرہ کے متعلق چند اہم فتاویٰ صفحہ: 339

محدث فتویٰ